

Psa

Chapter 96

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	שִׁירוֹ	לַיהוָה	שִׁיר	קִדְשׁ	שִׁירוֹ	לַיהוָה	כָּל-	הָאָרֶץ:
	گاؤ	یہوواہ-کے-لیے	گیت	نیا	گاؤ	یہوواہ-کے-لیے	ساری	زمین
	H7891	H3068	H2319	H7891	H3068	H3605	H0776	

کرو۔سرائی مدح کی رب دنیا، پوری اے گاؤ، گیت نیا میں تمجید کی رب

2	שִׁירוֹ	לַיהוָה	בָּרְכוּ	שְׁמוֹ	בְּשִׁרוֹ	מִיּוֹם-	לְיוֹם	יְשׁוּעָתוֹ:
	گاؤ	یہوواہ-کے-لیے	مبارک-کہو	اُس-کے-نام-کو	منادی-کرو	دن-بہ-دن	دن-تک	اُس-کی-نجات
	H7891	H3068	H1288	H8034	H1319	H3117	H3117	H3444

سناؤ۔خبری خوش کی نجات کی اُس روز بہ روز کرو، ستائش کی نام کے اُس گاؤ، گیت میں تمجید کی رب

3	סִפְרוֹ	בְּנוֹמִים	כְּבוֹדוֹ	בְּכָל-	הָעַמִּים	נִפְלְאוֹתָיו:
	بیان-کرو	قوموں-میں	اُس-کی-شان	سب	لوگوں-میں	اُس-کی-عجائبات
	H3519	H3605	H3519	H3605	H6381	H6381

کرو۔بیان عجائب کے اُس میں اُمتوں تمام اور جلال کا اُس میں قوموں

4	כִּי	יָדוּל	יְהוָה	וּמְהִלָּה	מְאֹד	נֹרָא	הוּא	עַל-	כָּל-	אֱלֹהִים:
	کیونکہ	بڑا-ہے	یہوواہ	اور-ستائش-کے-لائق	بہت	مہیب-ہے	وہ	سب-سے-بڑھ-کر	سب	معبودوں-سے
	H3068	H3068	H3068	H3966	H3372	H1931	H3605	H0430	H0430	H0430

ہے۔مہیب سے معبودوں تمام وہ ہے۔ لائق بہت کے ستائش اور عظیم رب کیونکہ

5	אֲכִי	כָּל-	אֱלֹהֵי	הָעַמִּים	אֱלִילִים	יְהוָה	שְׁמִים	עֲשָׂה:
	کیونکہ	سب	معبود	قوموں-کے	بت-ہیں	لیکن-یہوواہ	آسمانوں-کو	بنایا
	H3605	H0430	H0430	H0457	H3068	H8064	H8064	H8064

بنایا۔کو آسمان نے رب جبکہ ہیں ہی بُت معبود تمام کے قوموں دیگر کیونکہ

6	הוֹד-	וְהִרְרָ	לְפָנָיו	עוֹ	וְחַפְּצָרְתָּ	בְּמִקְדָּשׁוֹ:
	جلال	اور-شوکت	اُس-کے-حضور	طاقت	اور-حسن	اُس-کے-مقدس-مقام-میں
	H1935	H1926	H6440	H5797	H8597	H4720

ہے۔جلال اور قدرت میں مقدس کے اُس شوکت، و شان حضور کے اُس

7	הָבוּ	לַיהוָה	מְשֻׁפְּחוֹת	עַמִּים	הָבוּ	לַיהוָה	כְּבוֹד	וְעוֹ:
	دو	یہوواہ-کو	اے-خاندانو	قوموں-کے	دو	یہوواہ-کو	جلال	اور-طاقت
	H3051	H3068	H4940	H3051	H3068	H3519	H5797	H5797

کرو۔ستائش کی قدرت اور جلال کے رب کرو، تمجید کی رب قبیلو، کے قوموں اے

8	הָבוּ	לַיהוָה	כְּבוֹד	שְׁמוֹ	שְׁמוֹ	מִזְבְּחָהּ	וּבְאוּ	לְחַצְרוֹתָיו:
	دو	یہوواہ-کو	جلال	اُس-کے-نام-کا	اٹھاؤ	نذرانہ	اور-اؤ	اُس-کے-صحنوں-میں
	H3051	H3068	H3519	H8034	H5375	H4503	H0935	H0935

جاؤ۔بو داخل میں بارگاہوں کی اُس کر لے قربانی دو۔ جلال کو نام کے رب

9	הַשְׁתַּחֲוִי	לַיהוָה	בְּהִרְרָתָ	קִדְשׁ	חִילוֹ	מִפְנֵיו	כָּל-	הָאָרֶץ:
	سجدہ-کرو	یہوواہ-کو	شان-میں	پاکیزگی-کی	کانپو	اُس-کے-حضور-سے	ساری	زمین
	H7812	H3068	H1927	H6944	H3605	H6440	H0776	H0776

اُنھے۔ لرز سامنے کے اُس دنیا پوری کرو۔ سجدہ کو رب کر ہو آراستہ سے لباس مُقدس

10	אֲמָרוֹ	וּבְנוֹלָם	יְהוָה	מֶלֶךְ	אֶרֶץ	תְּכַזֵּן	תְּבַל	כָּל־	תְּמוֹט	יָרִין
	کہو	قوموں-میں	یہوواہ	بادشاہ-ہے	یقیناً	قائم-ہے	دنیا	نہیں	ڈگمگائے-گی	وہ-عدالت-کرے-گا
	H0559		H3068		H0637		H8398	H1077	H4131	H1777

لَعْمִים
لوگوں-کی
بְּמִישָׁרִים:
راستی-سے
[H4339](#)

گا۔[] کرے عدالت کی قوموں سے انصاف وہ گی۔ ڈگمگائے نہیں اور بے قائم سے مضبوطی دنیا یقیناً ہے! بادشاہ ہی [] رب کرو، اعلان میں قوموں

11	יְשׁוּחָו	הַשָּׁמַיִם	וְתִגְלָ	הָאָרֶץ	יִרְעֵם	הַיָּם	וּמְלָאוֹ:
	خوشی-منائیں	آسمان	اور-خوش-ہو	زمین	گرجے	سمندر	اور-جو-اُس-میں-ہے
	H8055	H8064	H1523	H0776	H7481	H3220	H4393

اُنھے۔ گرج سے خوشی ہے میں اُس کچھ جو اور سمندر منائے! جشن زمین ہو، خوش آسمان

12	יַעֲלֶז	שָׂדֵי	וְכָל־	אֲשֶׁר־	בּוֹ	אֶז	יִרְנְנוּ	כָּל־	עֵצֵי־	יַעַר:
	خوشی-منائے	میدان	اور-جو-کچھ	جو	اُس-میں-ہے	تب	گائیں-گے	سب	درخت	جنگل-کے
	H5937		H3605				H3605	H6086		

گے۔ بجائیں شادیانہ درخت کے جنگل پھر ہو۔ باغ باغ ہے میں اُس کچھ جو اور میدان

13	לְפָנַי	וְיְהוָה	כִּי	כָּא	כִּי	כָּא	לְשַׁפֵּט	הָאָרֶץ	יְשַׁפֵּט־	תְּבַל
	حضور-میں	یہوواہ-کے	کیونکہ	آ-رہا-ہے	کیونکہ	آ-رہا-ہے	عدالت-کرنے	زمین-کی	وہ-عدالت-کرے-گا	دنیا-کی
	H6440	H3068		H0935		H0935	H8199	H0776	H8199	H8398

בְּצִדְקָה
راستبازی-سے
اور-لوگوں-کی
اپنی-وفاداری-سے
[H0530](#)

سے صداقت اپنی اور گا کرے عدالت کی دنیا سے انصاف وہ ہے۔ رہا آ کرے عدالت کی دنیا وہ ہے، رہا آ وہ کیونکہ گے، بجائیں شادیانہ سامنے کے رب وہ گا۔ کرے فیصلہ کا اقوام